

الدعاء للامان من امراض الفير وسات

مؤلف:

رئيس المشايخ حضرت مولانا سيد شاه مصباح الحق عمادى

سجادہ نشین خانقاہ عمادیہ

پٹنہ



الدعاء للامان من امراض الفير وسات

(دوران QUARANTINE حفاظت ورضائے الہی

کے لیے دعاؤں کا مجموعہ)

مؤلف:

رئیس المشائخ حضرت مولانا سید شاہ مصباح الحق عمادی

سجادہ نشین خانقاہ عمادیہ

پٹنہ

ناشر:

ادارہ رشیدیہ، خانقاہ عمادیہ، منگل تالاب، پٹنہ ۸

عرض مؤلف

عالم انسانیت پر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب نازل ہے ہر طرف خوف و ہراس چھایا ہوا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے آج بڑے بڑے دعویٰ کرنے والوں سے اور غرور و تکبر کرنے والوں سے مشیت گویا سوال کر رہی ہے کہ اب بتاؤ کہ ایک مختصر ترین بلا سے تمہارا حال ایسا ہے تو کل قیامت میں جب گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا تب کیا ہوگا۔ مسجدوں سے مؤذن پکارتا تھا تو تم نظر انداز کر دیتے تھے آج قدرت نے تمہارے مسجد آنے کا راستہ روک دیا ہے۔ اماموں اور مؤذनों کو کمتر سمجھا کرتے تھے آج وہی مسجدوں کو آباد کئے ہوئے ہیں اور خانقاہوں کے صوفی جب گوشہ نشین ہوتے تو تمہارے اعتراضات کی آواز بلند ہوتی تھی آج ساری انسانیت گوشہ نشین ہو گئی ہے۔

زیادہ تر لوگوں کو خدائے برتر کی عظمتیں اور اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ لوگ رضائے الہی کے لئے کوشاں ہیں لیکن شاید خداوند عالم سب سے ناراض ہے۔ ظلم کرنے والوں، کمزور بن کر ظلم سہنے والوں اور مظالم پر خاموش رہنے والوں پر بھی اللہ کی ناراضگی صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ پختہ ایمان والوں کے لیے یہ امتحان کی گھڑی ہے۔ جن مقامات پر سب سے زیادہ توبہ قبول ہوتی ہے

گناہوں کی معافی ملتی ہے، اجر و ثواب کی زیادتی ہوتی ہے اور جہاں جہنم سے آزادی کا مژدہ ملتا ہے وہ تمام مقامات بند ہیں۔ گویا یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ابھی مقام مستجاب و عبادات بند ہوئے ہیں تو بہ کر لو، گناہوں اور خطاؤں سے باز آ جاؤ عبادت کرو شریعت مطہرہ کو اپنا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرو، آپس میں اتحاد قائم کرو اور اپنے سماج کو پاکیزہ بناؤ اگر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔

مگر ہم ہیں کہ موبائیل، انٹرنیٹ، وہاٹس اپ، فیس بک اور نہ جانے کیا کیا ہیں جن میں الجھے بیٹھے ہیں چند بار گھروں میں اذان دے کر ہم سمجھنے لگے کہ ہم نے رضائے مولیٰ حاصل کر لی اور ہم عتاب سے بچ جائیں گے۔

اپنے گھروں کو عبادت خانہ بنائیں دنیا داری اور دنیا کی رزم گاہ نہ بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، توبہ اور استغفار کریں، قرنطین (Quarantine) کے اوقات گپیں کر کے، موبائیل گیم کھیل کر یا فضولیات میں نہ گنواہیں، پنجوقتہ نماز گھروں میں انتہائی خشوع و خضوع سے پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں تسبیحات پڑھیں خدائے وحدہ لا شریک کی عظمت و شان بیان کریں سیرت رسول مقبول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ جس طرح ابھی گھر میں بیٹھ کر بہت سارے گناہوں سے دور ہیں، عہد کریں کہ اسی طرح گناہوں سے دوری بنائے رکھیں گے۔

بہت سے لوگ ان دنوں تلاوت و وظائف کی طرف مایل ہیں انہیں مگر ان کی رہنمائی نہیں ہو پارہی ہے کہ کچھ اس انداز سے تسبیح و تھلیل کریں کہ اللہ کی رضا کی نیت ہو ثواب بھی حاصل ہو، دعائیں بھی ہوں اور زاد آخرت بھی تیار ہو۔ اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے بزرگان دین کے سفینوں سے چند اور ادو وظائف اور دعائیں نقل کر رہا ہوں نماز فرض، واجب اور سنتوں کے علاوہ اور تلاوت قرآن پاک کے بعد اسے پڑھیں۔

ان وظائف و دعا پڑھنے میں رضائے الہی، ثواب اور حصول رحمت و حفاظتِ بلا و مصیبت سے نجات کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر مولیٰ تعالیٰ راضی ہو گیا تو ہر بلا ٹل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رضا اور رحمتیں عطا فرمائے۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

خاک پائے اولیا

مصباح الحق عمادی

سجادہ نشین خانقاہ عمادیہ، منگل تالاب پٹنہ

نحمدہ و نصلی علی سیدنا محمد سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ المکرمین و صحبہ

الراشدین کلہم اجمعین

درج ذیل وظائف صبح چاشت سے لے کر قبل عصر تک ایک یا دو نشست

میں مکمل کر لیں۔

(نوٹ: جہاں پر تشدید کے ساتھ زیر ہے وہ تشدید کے نیچے ہے اسے زیر پڑھیں اور جو تشدید کے اوپر ہے

اسے زیر پڑھیں)

درود شریف ۷۱ بار:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَ

بَارِكْ وَسَلِّمْ ط

دو رکعت نماز نفل صلوٰۃ التوبہ جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ

کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔

بعد سلام کے استغفار ۷۰ بار

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

کلمہ طیبہ ۱۰۰ بار

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

تکبیر تشریح ۳ بار

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ



To Read full book or download, Please subscribe to our web site

<http://www.khanquahemadia.org/subscribe>